



سوال

(385) آزاد شخص کی خرید و فروخت

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

غلام اور لونڈی کے علاوہ آزاد آدمی کی بیع و شراہو شرع میں ممنوع ہے اس کی واضح ادلہ احادیث یا قرآن سے جو ہوں بیان فرمائیں۔ اس ملک میں بعض لوگ لڑکا لڑکی بیچتے ہیں جس قدر جلد ہو سکے جواب کی ضرورت ہے۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

آزاد آدمی کی بیع و شراہ کے شرعاً ممنوع ہونے کی حدیث ذیل صحیح بخاری (19/2 مصری) "باب اثم من باع حراً" میں ہے۔

"عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ فَخَصْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَّرَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْفِرْ أَجْرَهُ" (البخاري، ابن ماجه (والله اعلم) - [1])

(سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تین شخص ایسے ہیں جن کے خلاف قیامت کے دن میں خود مدعی ہوں گا۔ (ایک) وہ شخص جو میرا نام لے کر عہد کرے پھر عہد شکنی کرے (دوسرا) وہ آدمی جو کسی آزاد انسان کو (غلام بنا کر) بیچ ڈالے اور اس کی قیمت کھالے اور (تیسرا) وہ شخص جو کسی کی مزدور رکھے پھر اس سے پورا کام لے کر اس کو اجرت نہ دے)

[1] - صحیح البخاری رقم الحدیث (2150)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

مجموعہ فتاویٰ عبداللہ غازی پوری



کتاب البیوع، صفحہ: 603

محدث فتویٰ